

# كھلائی پودوں سے بات كرتی ہے



- ✎ Ursula Nafula
- 👤 Jesse Pietersen
- 🗨️ Samrina Sana
- 📊 2
- 💬 اردو ur



یہ کھائی ہے۔ وہ سبت بدل کی ہے۔ اس کی زین لبوکوسو میں  
اس کے دم کا مطلب ہے، 'بہت اچھ'۔



كھائى اٺتى هے اور هٺور كے درخت سة ٺت كرتى هے۔ 'براہ  
كرم هٺے كے درخت، بڑے هو چؤ اور همى بهت زيده هٺے دو۔'



كھائی اسكول كى طرف چلتى ہے۔ اور راستے ميں وه گھس سے  
ڊٲ كرتى ہے۔ 'براہ كرم گھس سبز هو جو، اور سو كھلا مت۔'



كھائی جنگلی پھولوں كے پس سے گزرتی ہے۔ 'براہ كرم پھول  
تروٹزه رھوڈا كه میں تمھیں اپنے ڈلوں میں لگا سكوں۔'



اسکول میں کھلائی نے صحن کے وسط میں درخت سے بڑت کی۔  
'درخت برائے مہربانی، بڑی تلخیں نکلوانا کہ ہم آپ کے بادیہ کے  
نیچے پڑھ سکیں۔'



كھائى اپنے اسكول كے ارد گرد جنگلے سے ٲت كرتى ہے۔ ’براہ  
كرم مضبوط ہو چؤ اور خراب لوگوں كو آنے سے روك دو۔‘



جب کھلائی اسکول سے گھر واپس آتی ہے، تو وہ ہلٹوں کے  
درخت کے پس جتی ہے کھلائی پوچھتی ہے 'کی تمہرے ہلٹے پک  
گئے اہے؟'






ہلٹے ابھی بھی کچے ہیں کھلائی نے آہ بھری۔ میں تم سے کل  
ملنے آوں گی ہلٹوں کے درخت کھلائی نے کچے۔ ٹنڈ تَب تمہارے  
پس میرے لیے ایک رس بھرا ہلا موجود ہو۔



# Global Storybooks

[globalstorybooks.net](http://globalstorybooks.net)

كھلائی پودوں سے بات كرتی ہے

 Ursula Nafula

 Jesse Pietersen

 Samrina Sana

